

# جہاد کی فضیلت

محقق

فیضِ ملت، شمسِ لمصنفین مفسرِ اعظم پاکستان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

حضرت علامہ الحاج

مدظلہ العالی

مفتی محمد فیض احمد اویسی

# جہاد کی فضیلت

تصنیف لطیف

شمس المصنفین، فقیہ الوقت، فیض ملت، مفسر اعظم پاکستان

حضرت علامہ ابوالصالح مفتی محمد فیض احمد اویسی دامت برکاتہم القدسیہ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی و نسلم علیٰ رسولہ الکریم

اما بعد! ہمارے دور میں ہر طرف سے الجہاد الجہاد کی پکار سنائی دیتی ہے۔ فقیر نے چاہا کہ جہاد کے فضائل عرض کروں اور ساتھ ہی بتا دوں کہ حقیقی اور اصلی جہاد کون سا ہے اور نقلی جہاد کون سا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فقیر کی سعی مشکور اور ناشر اور مساعی سے ماجور اور مستفیدین کے لئے مشعل راہ ہدایت اور فقیر اور ناشر کے لئے توشہ راہ آخرت بنائے۔ (آمین)

مدینے کا بھکاری

الفقیر القادری ابوالصالح

محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

بہاولپور۔ پاکستان

۱۴ ذوالحجہ ۱۴۲۱ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله العلی الحق المبین والصلوة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین رحمة للعلمین المعروف عند اعداء الاسلام والذین النبی الامی الصادق الامین وعلی آله الطیبین واصحابه الطاهرین۔

## جہاد کا لغوی معنی

المجہد میں ہے ”جہاد“ المجہد سے ہے عربی کہتے ہیں **جهد فی الامر** بہت کوشش کرنا اور جہاد مفاعلہ کا مصدر ہے۔ کہا جاتا ہے **جاہد مجاہدة و جہاد** بمعنی پوری طاقت لگا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ** (پارہ ۷، سورۃ الحج، آیت ۷۸) **ترجمہ:** اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا۔

خلاصہ یہ کہ جہاد کا مفہوم انتہائی قوت سے حملہ آور دشمن کی مدافعت کرنا۔ (مفردات القرآن امام راغب)  
(۱) جہاد کے درجات کا اول درجہ صرف ایک جدوجہد ہے جو حق و صداقت کے لئے حرکت میں آتی ہے اور اس کو جنگی محاذ آرائی سے کوئی واسطہ نہیں اور اس جدوجہد کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام زبان اور قلم اپنا پیغام دوسروں کے دلوں میں پہنچانے میں آزاد ہو۔

(۲) جب دشمن طاقتیں عقل و فراست سے عاری ہو کر مقابلہ پر آجائیں تو ایسے وقت میں جہاد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دشمنوں اور ان کے تمام جنگی مرکزوں کے خلاف مسلح جنگ کی جائے اور ان کو فتح کر کے دم لیا جائے۔ قرآن کریم نے جو جہاد کا نصب العین متعین کیا ہے وہ یہ ہے۔

**خدا کے باغی منکروں کا دعویٰ سرنگوں رہے اور اللہ کا بول ہمیشہ بالا رہے**

**عمدة القاری شرح بخاری، عینی جلد ۴ صفحہ ۵۵۷** پر ہے کہ ایک دیہاتی حاضر خدمت ہو اس نے سنجیدگی سے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ ایک آدمی مال لوٹنے کے لئے جنگ کرتا ہے دوسرا ذاتی شہرت کے لئے تیسرا غرور و شجاعت کی نمائش کے لئے۔ ان میں کون سا شخص جہاد فی سبیل اللہ کے نصب العین کو پورا کرتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تینوں نہیں بلکہ وہ شخص جو اس لئے جنگ میں حصہ لیتا ہے تاکہ کلمۃ اللہ بلند رہے اور اللہ کا بول بالا ہو۔ یہی اصلی جہاد ہے اس کے قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل وارد ہیں۔ چند فضائل ملاحظہ ہوں

## فضائل جہاد از قرآن مجید

(۱) **وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ**

(پارہ ۲، سورۃ البقرۃ، آیت ۱۹۰)

**ترجمہ:** اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔

ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو لڑنے کی ممانعت تھی اور اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ وہ کفار و مشرکین کی ایذا رسانی پر صبر کریں۔ جب حضور ﷺ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو کفار و مشرکین سے لڑائی کی اجازت میں جو سب سے پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی وہ یہی آیت مبارکہ تھی۔

## ازالہ وہم

عیسائی و دیگر اعدائے اسلام کہتے ہیں کہ اسلام بزور تلوار پھیلا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہی بات ہوتی تو جنگ کی ابتدا مسلمانوں سے ہوتی یہ سب مانتے ہیں کہ لڑائی میں پہلے مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی بلکہ کافروں کی طرف سے ہوئی تھی۔ ان کے ظلم و فساد کی جڑ کاٹنے اور ان کے کفر کی سرکشی کا زور توڑنے کے لئے مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی اجازت دی گئی۔

ہجرت سے پہلے تو مسلمانوں کو لڑنے کی مطلق اجازت ہی نہیں تھی مکہ میں مسلمانوں کا اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی کیا تھا کہ وہ کافروں کے ہاتھوں سے مار کھاتے رہیں، زخم پر زخم سہتے رہیں، قتل ہوتے رہیں اور صبر کرتے رہیں جب کافروں کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں کو بھی تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی۔

علاوہ ازیں سینکڑوں مسلمان جو عین مظلومی کی حالت میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے انہوں نے کس کی تلوار کے خوف سے اسلام قبول کیا تھا اُس وقت تلوار تو کفار مکہ کے ہاتھ میں تھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار ہی کہاں تھی کہ تلوار کے خوف سے کوئی اسلام قبول کرتا۔

اس کی مزید تفصیل فقیر کی تصنیف ”کیا اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟“ میں مطالعہ کریں۔

**وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ**

(پارہ ۲، سورۃ البقرۃ، آیت ۱۹۳)

**ترجمہ:** اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔

## فائدہ

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اسلام میں جہاد اور جنگ کا مقصد ملک گیر نہیں اور نہ مالِ غنیمت کا حصول ہے بلکہ ان شرارتوں کو روکنے کے لئے جو دینِ حق کو قبول کرنے کے لئے کافروں نے کھڑی کر رکھی تھیں۔

**كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** (پارہ ۲، سورۃ البقرۃ، آیت ۲۱۶)

**ترجمہ:** تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

## فائدہ

اسلام میں اکثر عبادت ایسی ہیں جن کا تعلق جسم اور مال کی قربانی سے ہے لیکن جس عبادت میں جان کی قربانی دینی پڑتی ہے وہ صرف جہاد ہے پھر ساری آرزوؤں اور تمناؤں کا محور آدمی کی زندگی ہی ہے۔ زندگی کے لئے ہر چیز قربان کی جاسکتی ہے لیکن قربان جائیں قرآن کے اس انداز بیان پر کہ اس مشکل کو کتنی آسانی سے اس نے حل کر دیا۔ وہ یہ کہ جہاد کا حکم یقیناً تمہیں ناگوار ہوگا کہ اس میں جان کی قربانی کا سوال ہے لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو چیز تمہیں بُری لگتی ہے ہو سکتا ہے انجام کے اعتبار سے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو اور جو چیزیں تمہیں بھلی لگتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ تمہارے حق میں بُری ہوں کیونکہ ہر چیز کا انجام اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔

یعنی جہاد سے جی چڑا کر اگر کچھ دنوں کے لئے تم زندہ بھی رہے تو اس کے دردناک انجام کی تمہیں کیا خبر! اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے لیکن اگر تم نے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی تو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں ایسی نعمت عطا کرے گا کہ ہزاروں زندگیاں اس پر قربان ہیں۔ مرنے کا ایک وقت تو بہر حال مقرر ہے بستر مرگ پر مرو یا میدان جنگ میں جب ایک دن مرنا ہی ٹھہراتو کیوں نہ ایسی موت مرو جو تمہیں شہادت کی موت سے سرفراز کرے اور جس کے صلے میں دائمی عزت اور آسائش کا گھر تمہیں نصیب ہو۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (پارہ ۱۱، سورۃ التوبہ، آیت ۱۱۱)

**ترجمہ:** بیشک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لئے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لئے جنت ہے، اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون؟ تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

## فائدہ

اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ حالانکہ مومنین کی جان اور ان کا مال سب اللہ ہی کی ملک ہیں لیکن بندہ نوازی فرمائی کہ اسی کی دی ہوئی جان اور اسی کا بخشا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرو اور جنت کے مالک و مختار بن جاؤ۔ قتل کرو جب بھی اور قتل ہو جاؤ جب بھی جنت کا استحقاق ہر حال میں محفوظ ہے اور بات میں قوت پیدا کرنے کے لئے یہ یقین دہانی بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اتنا پکا ہے کہ اس نے تورات، انجیل اور قرآن میں اپنے وعدے کے ایفاء کا پورا پورا ذمہ لیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر مومنین جہاد کے لئے اپنے گھروں سے نکل کر جنت کی طرف پیش قدمی نہ کریں تو ان سے بڑھ کر بد قسمت اور کون ہوگا؟

(۵) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنََهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ

فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (پارہ ۱۰، سورۃ التوبہ، آیت ۲۴)

**ترجمہ:** تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں، تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔

### فائدہ

اس آیت کریمہ میں قرآن نے ان ساری چیزوں کو سمیٹ لیا ہے جو جہاد میں جانے سے کسی انسان کو روک سکتی ہیں۔ ماں باپ چھوٹ جائیں گے، اولاد کو خیر باد کہنا ہوگا، بھائی بہنوں سے جدائی ہو جائے گی، دل لبھانے والی بیویوں سے فراق کا صدمہ برداشت کرنا ہوگا، خاندان کے اعزہ و اقارب سے مفارقت ہو جائے گی، کمایا ہوا مال قبضے سے نکل جائے گا، تجارت خراب ہو جائے گی، پسندیدہ مکانات کو الوداع کہنا ہوگا۔ اگر یہ چیزیں جہاد کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں تو اب یہ دہلا دینے والا اعلان سینے جو غفلتوں کا نشہ اتارنے کے لئے کافی ہے کہ خدا کے عذاب کا انتظار کرو عذاب کی اگرچہ کوئی تفصیل نہیں ہے لیکن عذاب بہر حال عذاب ہے۔

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (پارہ ۵، سورۃ النساء، آیت ۷۴)

**ترجمہ:** تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہئے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آئے تو عنقریب ہم اُسے بڑا ثواب دیں گے۔

### فائدہ

یعنی کوئی بھی حال ہو وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے ثواب کا مستحق ہے مجاہد کے لئے جنت میں مختلف مدارج بنا رکھے ہیں۔ جس کی تفصیل ہم آگے چل کر عرض کریں گے۔

سب سے بڑھ کر یہ شانِ مجاہد ہے کہ شہادت کے بعد شہید ولایت کاملہ میں صدیقوں سے دوسرے نمبر پر آئے گا چنانچہ قرآن مجید میں ہے

أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (پارہ ۵، سورۃ النساء، آیت ۶۹)

**ترجمہ:** جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ۔

اور اللہ تعالیٰ مجاہد کو شہادت کے بعد دنیوی زندگی سے بھی زیادہ ایسی خوشگوار زندگی بخشا ہے کہ اب اس کو مردہ کہنا بھی اسے گوارا نہیں۔

(۷) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

(پارہ ۲، سورۃ البقرۃ، آیت ۱۵۴)

**ترجمہ:** اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں۔

بلکہ مردہ سمجھنے سے روک دیا گیا چنانچہ فرمایا

(۸) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(پارہ ۴، سورۃ آل عمران، آیت ۱۷۱-۱۶۹)

**ترجمہ:** اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں۔ شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی، جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا۔

## شان نزول

اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت شہداء اُحد کے حق میں نازل ہوئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے سید عالم ﷺ نے فرمایا جب تمہارے بھائی اُحد میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی قنادیل جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹھے نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا پس یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابوداؤد)

اس سے ثابت ہوا کہ ارواح باقی ہیں جسم کے فنا کے ساتھ فنا نہیں ہوتیں۔

## فائدہ

شہید زندوں کی طرح کھاتے پیتے عیش کرتے ہیں۔ سیاق آیت اس پر دلالت کرتا ہے کہ حیات روح و جسم دونوں کے لئے ہے۔ علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں۔ مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی اور زمانہ صحابہ میں اور ان کے بعد بکثرت معائنہ ہوا ہے کہ جس بھی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تروتازہ پائے گئے۔

(خازن وغیرہ)

مزید فضائل و کرامات کے ابواب میں پڑھیے۔

## احادیث مبارکہ

(۱) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ کون سا شخص افضل ہے؟ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرتا ہے۔ سائل نے عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا وہ شخص جو جنگل کی کسی گھاٹی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا اور خدا کی مخلوق کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے تمام لوگوں سے صدیقین کے بعد بڑا مرتبہ پائے گا۔ یہ مرتبہ اتنا بلند ہوگا کہ جس پر تمام لوگ قیامت میں رشک کریں گے۔

(۲) حضرت ابوذر نے رسول اکرم ﷺ سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کی فضیلت میں سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا

### فائدہ

پہلے ستر سال مسلسل نماز (نوافل) پڑھنا ناممکن ہے اگر کسی خوش نصیب کو یہ دولت نصیب ہو تو مجاہد کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ قیامت میں ستر سالہ عابد سے مجاہد افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اگرچہ اسے میدانِ جہاد میں ایک ساعت حاضری کا موقع ملا ہو پھر اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا جو اپنی زندگی جہاد کے لئے وقف کر دے۔

### نوٹ

جہاد کئی قسم کا ہے۔ اپنے نفس سے، زبان، مال، قلم وغیرہ جہاد کے موثر ذرائع ہیں ان کے ساتھ ساتھ جہاد کا مصروف ذریعہ ہتھیار ہے اور یہی تمام قسموں سے افضل ہے۔ میدانِ کارزار میں جان ہتھیلی پر رکھ کر جہاد کرے یعنی اعدائے اسلام کے مقابلہ میں جان جانِ آفرین کے سپرد کر دے اور اس طرح کا جہاد قیامت جاری رہے گا۔

### انتباہ

جہاد کا انکار قادیانی نے کیا وہ اس حدیث شریف کا منکر ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری ہے۔

(۳) امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال بالکل اس شخص کی طرح ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے اور اپنی راتوں کو قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھنے میں بسر کرتا ہے اور وہ روزے نماز سے کبھی نہیں تھکتا یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے واپس لوٹ آئے۔

### فائدہ

نبی پاک ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے جہاد کے لئے نکلتا ہے اسے صائم الدہر کا بھی ثواب ملے گا اور قائم اللیل کا بھی۔ جب تک وہ جہاد سے واپس نہیں لوٹتا دن کے روزہ دار اور رات کے عبادت گزار کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔

### انتباہ

گویا قیامت میں مجاہد امیر ترین لوگوں میں شمار ہوگا جہاں صرف ایک نیکی کی بڑی قدر و منزلت ہوگی ایک شخص کی ایک نیکی کم ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کسی سے مانگ کر لاؤ تمہیں بہشت میں داخل کروں وہ مارا مارا پھرتا رہے گا کوئی بھی اسے نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی مایوس ہو کر واپس لوٹے گا کسی سے اسے وہ نیکی ملے گی تب جنت جائے گا۔

(۵) امام بخاری اور امام مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا تمہیں کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد اس دنیا بھر میں پھر واپس آنے کی خواہش رکھتا ہو سوا شہید کے

کہ وہ جنت کی نعمتوں اور لذتوں سے ہمکنار ہونے کے بعد بھی اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ اسے دنیا میں دسوں بار لوٹا دیا جائے تاکہ بار بار شہادت کی نعمت سے سرفراز ہونے کا اسے موقع ملے۔ اس کے دل میں یہ آرزو شہادت کے اس صلے کی وجہ سے پیدا ہوگی جو جنت میں اسے ہر طرف نظر آئے گا۔

## فائدہ

نبی اکرم ﷺ کے اس فرمان میں منصب شہادت کا کیا صلہ ہے اس کا اندازہ ہم اس دنیا میں نہیں لگا سکتے جنت میں داخل ہونے کے بعد ہی ہمیں پتا چلے گا کہ خدا کی راہ میں جان دینے کے کیسے کیسے انعامات و اکرامات وہاں تیار کئے گئے ہیں۔ اب بتائیں تو کیا بتائیں اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت شان میں فرمایا:

**فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** (پارہ ۲۱، سورۃ السجدۃ، آیت ۱۷)

**ترجمہ:** تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لئے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔

## خوش نصیب مجاہد

مجاہد کتنا خوش نصیب ہے کہ شہادت پاتے ہیں سیدھا جنت میں پہنچ کر بے پایاں انعامات و اکرامات سے نوازا جائے گا اور قبر سے حشر تک الی الابد اعزازت و اکرامات میں ہوگا اس کے ٹھاٹھ ہاتھ کو دیکھ کر بہت بڑے بڑے مرتبے والے بہشتی رشک کریں گے کہ کاش ہم بھی جہاد میں شریک ہوتے۔

(۶) امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت میں سو درجے مقرر فرمائے ہیں۔ ہر درجے کا دوسرے درجے سے اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔

## فائدہ

اس حدیث شریف میں سو درجے کے ذکر سے حضور پاک ﷺ کی مراد سو جنتیں ہیں اور ہر جنت کا فاصلہ دوسری جنت سے اتنا ہی ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔

## انتباہ

اس اجمال کو آج کے جاگیردار سے سمجھئے کہ جسے دنیا میں چند مربع حاصل ہیں تو وہ اہل دنیا کی نظروں میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا ہے لیکن وہ مجاہد فی سبیل اللہ جسے آج دنیا میں دو گز زمین بھی نصیب نہیں لیکن شہادت پانے کے بعد یا جہاد کی زندگی بسر کر کے طبعی موت مرنے کے بعد صرف چند مربعوں کا مالک نہیں بلکہ ایک وسیع ملک کا بادشاہ ہوگا۔

(۷) امام ترمذی نے حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شہید کو چھ طرح کے اعزاز سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ پہلا اعزاز یہ ہے کہ دم نکلتے ہی اس کے سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ تیسرا اعزاز یہ ہے کہ اسے قبر کے عذاب سے امان دی جاتی ہے۔ چوتھا اعزاز یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ اور خوف و دہشت

سے محفوظ رہے گا۔ پانچواں اعزاز ہے کہ قیامت کے دن اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس میں یا قوت جڑے ہوں گے جس کا ایک یا قوت دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہوگا۔ چھٹا اعزاز یہ ہے کہ ۷۲ حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا جن کی آنکھیں نہایت خوبصورت، پرکشش اور کشادہ ہوں گی۔

یہ چھ اعزازات ان نعمتوں کا ایک حصہ ہیں جو اللہ تعالیٰ شہیدوں کو عطا کرے گا۔ بے شمار حدیثوں میں شہیدوں کے فضائل و مکارم اور ان کے مدارج و انعامات بیان کئے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام منصب شہادت کے حصول میں ہمیشہ سرشار نظر آتے ہیں جس کی تفصیل انشاء اللہ آگے آئے گی۔

(۸) طبرانی شریف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم جہاد کو چھوڑ بیٹھتی ہے اللہ تعالیٰ اُس کی سزا میں کوئی ایسا عذاب ان پر مسلط کر دیتا ہے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔

(۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا

من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزومات على شعبة من النفاق (مسلم شریف)

جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ نہ اس نے کبھی جہاد کیا اور نہ دل میں جہاد کی آرزو پیدا ہوئی ہے تو وہ نفاق کی خصلت پر

مرا۔

(۱۰) حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا

من لم يغز او يبجهز غازياً او يخلف غازياً في اهله بخير اصابه الله بقارعة قبل يوم القيمة

(ابوداؤد شریف)

جس شخص نے نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کی تیاری میں کسی غازی کی مدد کی اور نہ کسی غازی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کی اچھی دیکھ بھال کی تو اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔

(۱۱) حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا

ليس شئى احب الى الله من قطرتين قطرة رموع من خشية الله و قطرة دم يهراق

فى سبيل الله۔ (ترمذی شریف)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہا ہو دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جائے۔

**فائدہ**

راہ خدا میں مرنے میں یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔

عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول رباط يوم فى سبيل الله خير من

الف يوم فيما سواه من المنازل۔ رواه الترمذی و قال حديث حسن صحيح۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے

کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرنا دوسرے کاموں میں ہزار بار لگے رہنے سے افضل ہے۔ (ترمذی)

## فائدہ

اس حدیث شریف میں جہادِ اسلامی کی فضیلت کا بیان ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض اعمال کو دوسرے اعمال پر افضلیت ہے۔ اس سے صوفیہ کرام کا استدلال ہو سکتا ہے کہ

یک زمانہ صحبت با اولیاء  
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

اس کی وجہ ظاہر ہے کہ صد سالہ طاعت بے ریا سے وہ منازل طے نہیں ہوتیں جو ولی کامل کی ایک نگاہ سے طے ہو جاتی ہیں مثلاً ساحرین فرعون ایک لمحہ صحبت موسیٰ علیہ السلام سے کیا سے کیا ہو گئے۔

## شوق جہاد اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

دورِ حاضر کے مجاہدین جہاد کی تیاری میں اور شوقِ جہاد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حکایا تاوران کے واقعات کو مشعلِ راہ بنائیں اس مختصر تصنیف میں ان کے چند واقعات حکایات عرض کرتا ہوں۔

## اسلام کا پہلا معرکہ الآراغزوہ بدر

یہ غزوہ مثالی ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد اور ساز و سامان کی کمی کے باوجود بے مثالی غزوہ ہے باوجودیکہ صحابہ کرام نے اس کے لئے تیاری بھی نہیں کی اور اس میں بعض حضرات کو علم بھی بعد میں ہوا کہ نبی اکرم ﷺ جنگ کے ارادہ پر نہیں بلکہ ابوسفیان کے قافلہ کے تعاقب میں نکلے تو معلوم ہوا کہ کفار مکہ جنگ کی مکمل تیاری کر کے آرہے ہیں آپ ﷺ نے صحابہ سے مشورہ لیا سب نے کھڑے ہو کر نہایت عمدہ باتیں کہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نفیس ترین باتیں کیں اس پر رسول اللہ ﷺ نے ان کی باتوں پر خوشنودی کا اظہار فرمایا اور انہیں دعائے خیر دی اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا ”یا رسول اللہ ﷺ اپنے کام میں غور و فکر فرمائیے ان باتوں کو چھوڑیے خدا کی قسم اگر آپ ہمیں ”عدن“ (ایک مقام کا نام ہے) تک لیجائیں گے تو ہم انصار میں سے کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا“ اس پر حضور ﷺ نے ان کے لئے دعائے خیر فرمائی۔ ان کے بعد حضرت مقداد بن عمرو کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ﷺ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں ہم کبھی بھی وہ بات منہ سے نہ نکالیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (پارہ ۶، سورۃ المائدہ، آیت ۲۴)

**ترجمہ:** تو آپ جائیے اور آپ کا رب تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔

حضور اکرم ﷺ آپ اور آپ کا رب دونوں جا کر لڑیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر لڑنے والوں میں سے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ مردانہ وار لڑیں گے۔ اگرچہ آپ ”برگِ عماد“ تک جائیں۔ ”برگِ عماد“ حبشہ کے شہروں میں سے ایک

شہر ہے اس پر حضور ﷺ نے تبسم فرمایا اور ان کے لئے دعائے خیر فرمائی اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا تم مجھے مشورہ دو یہ خطاب انصار کی طرف تھا اور اس سے مقصود ان سے استمزاج و استکشافِ حال تھا۔ اس کلام کی شرح میں مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ بیعت عقبہ کے وقت انصار نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اس عہد سے اُس وقت تک باہر ہیں جب تک کہ آپ ہمارے گھروں میں رونق افروز نہیں ہوتے اور جب آپ ہمارے گھروں میں رونق افروز ہو جائیں گے تو یہ ہمارا عہد و پیمان ہے کہ ہم آپ کی دشمنی سے حفاظت اور ان سے مدافعت کریں گے اور آپ کی ہر اس چیز سے حمایت کریں گے جس چیز سے اپنی جانوں، اپنی اولاد اور اپنی بیبیوں کی حمایت کرتے ہیں۔

ان کی اس بات سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کے ساتھ ان کی حمایت اُس وقت تک مخصوص ہے جب تک آپ مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوں اور چونکہ مذکورہ حالات میں حضور ﷺ مدینہ میں تشریف فرما نہیں تھے اس لئے انصار کی حمایت شامل حال نہیں رہتی حالانکہ انصار کی مراد یہ تھی کہ حضور ﷺ کے تشریف لانے اور ان کے یہاں اقامت فرمانے کے بعد ہمیشہ ہر حالت میں آپ کی خدمت و حمایت میں رہیں گے۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا یہ خطاب ہماری طرف ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا ”ہاں“ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کی تصدیق کی ہے اور ہم نے ہر اس چیز کی گواہی دی ہے جو آپ خدا کی طرف سے لائے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کے ذریعہ ہم نے آپ کو تصدیق فرماہم کی ہے اور آپ کی سمع و طاعت اور فرمانبرداری پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ دلایا ہے۔

لہذا اے اللہ کے رسول ﷺ! چلئے جہاں آپ کی مرضی ہو قسم ہے اس ذاتِ کریم کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اگر آپ چلیں اور ہمیں دریا میں ڈال دیں تو ہم دریا میں بھی پھاند جائیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی آپ سے پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ مڈ بھیڑ کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے ہم دشمن سے مڈ بھیڑ ہو جانے پر صبر کرنے والوں اور صادقوں میں سے ہیں۔ اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے مقابلہ کے وقت ہماری طرف سے آپ کو ایسا دکھائے گا جس سے آپ کے قلب و نظر کو روشنی و ٹھنڈک حاصل ہو لہذا آپ ﷺ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو سے حضور ﷺ بہت خوش ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے ساتھ تمہیں خوش رکھے تمہیں مژدہ ہو کہ فتح و نصرت تمہاری ہی ہے بلاشبہ حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک پر غالب فرماؤں گا خواہ قریش کا قافلہ ہو یا قریش کا لشکر۔ خدا کی قسم! گویا میں ان کے ہلاک ہونے کی جگہ اور ان کا مقتل دیکھ رہا ہوں اور اس کے بعد آپ ﷺ نے کفارِ قریش کے بدر میں مارے جانے کے مقامات کی طرف اشارہ فرمایا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے زمین پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا یہ فلاں کے مرکز کرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے مرکز کرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کا مقتل ہے اور یہ فلاں کی جائے کشتن ہے اور ایک ایک مارے جانے والے کا نام اور اس کے مقتل کا نشان بتایا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی حضور اکرم ﷺ کی بتائی ہوئی جگہ کے برخلاف نہ مارا گیا۔ (بخاری شریف)

## علم غیب

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقت جنگ کی فتح اور کفار کے مقتولین کی قتل گاہ نام بہ نام بتا دیا یہی علم غیب ہے جو اہل سنت کے عقائد میں ہے۔

## مجاہدین غزوۂ بدر

اس غزوۂ کے مجاہدین میں سے صرف دو مجاہدوں کے ایک واقعہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ کتب سیر میں ہے کہ مدینہ پاک کی وہ مبارک رات جس کی صبح کو معرکہ بدر کے لئے روانگی تھی عاشقانِ جہاد کے لئے عید کی رات سے کم نہ تھی رات کی تنہائی دو صحابی مجاہد آپس میں مشورہ کر رہے تھے عالم شوق میں گفتگو اتنی والہانہ ہو گئی کہ بات بات پر پلکوں کا دامن بھیگ جاتا تھا۔

جذبات کے تلاطم میں بیخود ہو کر ایک ساتھی نے دوسرے سے کہا طلوعِ سحر میں اب چند ہی گھڑیوں کا فاصلہ رہ گیا ہے محویت شوق کا یہ پُر کیف عالم شاید پھر نہ مل سکے اس لئے آؤ کل کے پیش آنے والے معرکہ جنگ کے لئے اپنے رب کے حضور میں اپنی سب سے محبوب آرزو کی دعا مانگی جائے۔ یہ سنتے ہی فرطِ مسرت سے دوسرے ساتھی کا چہرہ کھل اٹھا جذبہ شوق کی ورائفگی میں اس پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے جواب دیا نہاں آرزو کی شادابی کے لئے اس سے زیادہ رقت انگیز لمحہ اور کیا مل سکتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو اور تمہاری دعا پر میں آمین کہوں گا۔

اب کا عالم قابو سے باہر ہو چلا تھا۔ روح کی گہرائی سے لیکر پلکوں کی چلمن تک ساری ہستی ایک پُر سوز کیف میں ڈوب گئی تھی ہاتھ اٹھتے ہی دعا کے یہ الفاظ کہے۔

خداوند! کل میدانِ جنگ میں دشمن کا سب سے بڑا سوراخ اور جنگ آزمودہ بہادر میرے مقابلے پر آئے۔ میں اس پر شیر کی طرح ٹوٹ پڑوں پہلی ہی ضرب میں اس کی تلوار کی دھار موڑ دوں، اس کے نیزے کے ٹکڑے اڑا دوں اور اپنی نوک شمشیر اس کے سینے میں پیوست کر کے اسے زمین پر تڑپتا ہوا دیکھوں۔ ٹھیک اُس وقت جبکہ وہ شدت کرب سے چیخ رہا ہو میں اس کے قریب جا کر آواز دوں آج تیرے کفر کا غرور ٹوٹ گیا تیری طاقت کا نشہ اُتر گیا جس خدا کی غیبی قدرتوں کا تو نے مذاق اڑایا تھا۔

یہ کہہ کر پھر میں اس کا سر قلم کر کے ہمیشہ کے لئے ذلتوں کی خاپ پر اسے روندے جانے کے لئے پھینک دوں۔ اب دوسرے ساتھی نے اپنی دعا کا آغاز یوں کیا۔

اللہ العلمین! میری آرزو یہ ہے کہ کل پیش آنے والے معرکہ جنگ میں میرا مقابلہ دشمن کے سب سے جیوٹ اور دلیر سپاہی سے ہو وہ طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر میرے مقابلے پر آئے۔ شوقِ شہادت میں سرشار ہو کر میں اس کی طرف بڑھوں وہ میرے اُوپر حملہ کرے میں اس کے اُوپر وار کروں، لڑتے لڑتے میں گھائل ہو جاؤں میرا سارا جسم زخموں سے چور چور ہو جائے۔

اسلام کے ساتھ میری والہانہ محبت میری رگوں سے خون کی ایک ایک بوند کا خراج وصول کر لے یہاں تک کہ میں بیدم ہو کر زمین پر گر پڑوں۔ دشمن میرے سینے پر سوار ہو کر میرا سر قلم کر لے، میری ناک کاٹ دے، میری آنکھیں

نکال لے، میرے چہرے کی ہیئت بگاڑ دی گئی ہو پھر سر سے پاتک خون میں نہائے ہوئے اپنے مسکین بندے کو اس حال میں دیکھ کر تو دریافت کرے

یہ تو نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے میری دی ہوئی آنکھیں کیا ہوئیں کان اور ناک کہاں پھینک آئے تیرا خوبصورت چہرہ کیسے بگڑ گیا؟

پھر میں جواب دوں گا کہ رب العزت! تیرے اور تیرے محبوب کی خوشنودی کے لئے یہ سب کچھ میرے ساتھ پیش آیا۔ اب میری آخری تمنا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور اپنے محبوب کو راضی کر دے۔

## فائدہ

راوی بیان کرتے ہیں کہ دونوں کی پُرسوز دعائیں بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئیں۔ دوسرے دن میدانِ جنگ میں دونوں کے ساتھ وہی واقعات پیش آئے جو اپنے رب کے حضور میں بطور دعا انہوں نے مانگی تھی۔

## غزوہ خیبر

اس غزوہ مبارک کا بھی صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ”اسود راعی“ نام کا ایک شخص تھا یہ ایک حبشی تھا جو یہودیوں کے مویشی چرایا کرتا تھا وہ صحرا سے اس قدر مانوس تھا کہ اپنے وقت کا بیشتر حصہ وہیں گزارتا تھا۔ ایک دن شام کو پلٹ کر آبادی میں آیا تو دیکھا کہ سارے یہودی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اس نے تعجباً نہ لہجے میں دریافت کیا یہ کس کے ساتھ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ ایک یہودی نے جواب دیا کیا تجھے نہیں معلوم کہ عرب کے نخلستان میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا مدعی ہے۔ وہ اپنے ساتھ دیوانوں کی ایک فوج لے کر فلاں مقام پر ٹھہرا ہوا ہے اور خیبر کی طرف کوچ کرنے والا ہے۔ یہ ساری تیاریاں اسی کے مقابلے کے لئے ہو رہی ہیں جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق امروز فرا میں اس کی فوجیں ہمارے قلعہ کی فصیل تک پہنچ جائیں گی۔

یہ جواب سن کر چرواہے کے لاشعور میں اچانک جستجوئے شوق کا ایک چراغ جلا اور وہ حقیقت سے قریب ہو کر سوچنے لگا۔

بلاوجہ کوئی دیوانہ نہیں ہوتا اور وہ بھی دیوانوں کی فوج جو جان دینے کے لئے ساتھ آئی ہے جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر ہر طرح کا سودا ہو سکتا ہے لیکن جان کا سودا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے بیساختہ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی ”یقیناً وہ ایک سچا پیغمبر ہے“ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور اپنی بکریوں کو ساتھ لئے ہوئے بخودی کے عالم میں وہ ایک طرف چل پڑا بالآخر سراغ لگاتے لگاتے وہ پیغمبر اسلام کے لشکر میں پہنچ گیا۔ حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے نبی پاک ﷺ سے سوال کیا کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور ﷺ نے جواب دیا اس بات کی کہ اللہ واحد لا شریک ہے اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے نبیوں اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ دنیا میں قائم فرمایا جس کی آخری کڑی میں ہوں۔

اس نے پھر دریافت کیا کہ اگر میں خدا کی توحید پر ایمان لاؤں اور آپ ﷺ کی نبوت کا اقرار کر لوں تو مجھے کیا صلہ ملے گا؟ فرمایا عالم آخرت کی دائمی آسائش اور بیشمار نعمتیں۔

پھر اس نے حقیقت سے قریب ہو کر اپنی بے مانگی کا اس طرح اظہار کیا یا رسول اللہ ﷺ! میں ایک حبشی نژاد ہوں میرے جسم کا رنگ سیاہ ہے، میرا چہرہ نہایت بد شکل ہے، میں ایک صحرائیوں چرواہا ہوں، میرے بدن سے پسینے کی بدبو نکلتی ہے، لوگ مجھے حقیر نظر سے دیکھتے ہیں اگر میں بھی آپ ﷺ کے دیوانوں کی فوج میں شامل ہو کر راہ خدا عزوجل میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت میں داخلے کی اجازت ملے سکے گی۔

ارشاد فرمایا ضرور ملے گی اور پورے اعزاز و اکرام کیساتھ ملے گی یہ سنتے ہی وہ بخود ہو گیا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے بکریوں کی بابت دریافت کیا ارشاد فرمایا دوسرے کی چیز ہمارے لئے حلال نہیں انہیں قلعہ کی طرف لیجاؤ اور کنکر مار کر ہنکا دو یہ سب اپنے اپنے مالک کے پاس چلی جائیگی۔

چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب اسے ولولہ شہادت کے ہیجان سے ایک لمحہ قرار نہیں تھا فوراً اُلٹے پاؤں واپس لوٹ آیا اور مجاہدین اسلام کی صفوں میں شامل ہو گیا اور وہ بکریاں بے توقف و بے اختیار دوڑتی ہوئی مالک کے گھر پہنچ گئیں۔

## فائدہ

راوی بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن جب میدان میں سپاہیوں کی قطار کھڑی ہوئی تو جذبہ شوق کی بے تابی اس کے سیاہ چہرے سے شبنم کے قطروں کی طرح ٹپک رہی تھی۔ طبلِ جنگ بجتے ہی اس کے ضبط و تکیب کا بند ٹوٹ گیا اور وہ اضطراب کے عالم میں دشمنوں کی یلغار میں کود پڑا۔

صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس کے سیاہ ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار کا منظر ایسا بھلا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کالی گھٹاؤں میں بجلی کوند رہی ہو۔ نہایت بے جگری کے ساتھ اس نے دشمن کا مقابلہ کیا، زخموں سے سارا جسم لہولہاں ہو گیا تھا لیکن شوقِ شہادت میں وہ دشمن کی طرف بڑھتا ہی گیا یہاں تک کہ چاروں طرف سے اس پر تلواریں ٹوٹ پڑیں اب وہ نیم جان ہو کر زمین پر تڑپ رہا تھا گھائل جسم میں اس کی روح مچل رہی تھی کہ اب جنت کا صلہ بہت ہی قریب رہ گیا تھا۔

## انعامِ جہاد

لڑائی ختم ہونے کے بعد جب اس کی نعش حضور ﷺ کے سامنے پیش کی گئی تو اس کے فیروز بخت انجام پر سرکار ﷺ کی پلکیں بھیگ گئیں۔ فرمایا اسے جنت کی نہر حیات میں غوطہ دیا گیا اب اس کے چہرے کی چاندنی سے جنت کے بام و درچمک رہے ہیں اس کے پسینے کی خوشبو سے حورانِ بہشت اپنے اپنے آنچل معطر کر رہی ہیں۔ جنت کی دو حسین و جمیل حوریں اپنے جھرمٹ میں لئے ہوئے اس باغِ خلد کی سیر کر رہی ہیں۔

حضور ﷺ کے اس بیان پر بہت سے صحابہ کرام کے قلوب رشک سے مچل گئے اس کے نصیب کی ارجمندی پر سب محو حیرت تھے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے کوئی عمل خیر نہیں کیا تھا۔ اس کے نامہ عمل میں نہ ایک وقت کی نماز تھی نہ ایک سجدہ تھا۔ سفید و شفاف کفن کی طرح زندگی کا سادہ ورق لئے ہوئے گیا اور بڑے بڑے زاہدانِ شب زندہ دار کو ایسی دولت نصیب نہیں ہوتی جو اس خوش بخت کو نصیب ہوئی۔

## فائدہ

اس طرح کا ایک اور خوش نصیب کا واقعہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا مسلمانو! جنت کے لئے اٹھو جس کا عرض اور وسعت آسمان وزمین سے بھی زیادہ ہے۔

ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا جنت آسمان وزمین کی لمبائی سے بھی زیادہ چوڑی ہے فرمایا ہاں زیادہ چوڑی ہے۔ اس نے سن کر کہا حضور ﷺ میرے لئے دعا کر دیجئے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو جنتی ہے اس نے جنت کی بشارت سن کر اپنی جھولی سے کھجوریں نکالیں اور کھجوریں کھانا شروع کر دیں شاید ایک دو کھائی ہوں گی کہ دفعۃً بولا کھجوریں کھانے تک بھی جنت کا انتظار کیوں کیا جائے کھجوریں چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور تلوار لے کر دشمن کے لشکر میں گھس گیا تھوڑی دیر لڑنے کے بعد شہید ہو گیا۔

## انتباہ

غور فرمائیے کہ اس خوش بخت کو لمحہ بھر میں کیسے انعامات نصیب ہوئے کہ جہاد کی برکت سے بہت بڑے زاہدوں اور عابدوں سے بازی لے گیا۔

## غزوة احد کے مجاہدین

### حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

غزوة احد کے دوران حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو حضور ﷺ کی ڈھال بنا رکھا تھا ابن قمیہ کے تلوار کے واروں کو آپ پر روکتے رہے۔ ان زخموں سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ طلحہ اپنے ہاتھ کو تیروں کی ڈھال بنائے رہے۔ جب ایک کافر نے حضور ﷺ پر تیر پھینکا تو وہ حضرت طلحہ کی چھنگلیا پر لگا اور وہ بے کار ہو گئی۔ حدیث میں ہے کہ روزِ احد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی زخم کھائے تھے۔ اس کے باوجود حفاظت کا حق ادا کرتے رہے۔ ایک مرتبہ تلوار کی دو ضربیں ان کے سر پر پڑیں اور وہ انتہائی الم کی حالت میں گر کر بے ہوش ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکر ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیئے اور ان کو ہوش میں لائے ہوش میں آتے ہی انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کا کیا حال ہے؟ فرمایا بخیریت ہیں۔ (مدارج)

## فائدہ

حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ﷺ ہمارے لئے مشعلِ راہ ہے کہ عین موت کے وقت اپنی پرواہ نہیں کی لیکن پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا کیا حال ہے۔

## انعام

حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزِ احد بڑی دلیری دکھائی اور یہی بہادری ان کے لئے داخلہ جنت کا سبب بنی۔ حضور ﷺ نے فرمایا طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا حق پورا پورا ادا کیا۔

### حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ کو حنظلہ الغسیل اور غسیل ملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور احد کی رات ہی ان کی

شادی ہوئی تھی۔ رات کو اپنی زوجہ کے ساتھ شبِ باشی کی تھی۔ صبح کے وقت غسلِ جنابت کر رہے تھے اور ایک جانب سر دھور ہے تھے کہ اچانک سنا کہ صحابہ پرنگ وقت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ غیب سے ایک آواز سنی

**یا غسیل اللہ ارکبی**

**اے خدا کے مغسول سوار ہو جا**

انہوں نے اسی حالتِ جنابت میں بے چین ہو کر اور احد شریف آ کر دادِ شجاعت دی اور بہت سے کافروں کو جہنم رسید کر کے خود شہید ہو گئے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

اس کے بعد حضور ﷺ نے ملاحظہ فرمایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے ان کے اس حال پر تعجب کیا اور فرمایا ان کی زوجہ جس کا نام جمیلہ تھا اور یہ عبداللہ بن ابی کی بہن تھیں ان سے پوچھو انہوں نے ماجرا سنایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ غسلِ جنابت کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ حب تھے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں جنہی شہید کو غسل دیا

جائے۔

## **انعام**

جمیلہ زوجہ حظلہ غسیل الملائکہ بیان کرتی ہیں کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میں ایک دریچہ نمودار ہوا اور حضرت حظلہ آسمان میں اس دریچہ سے داخل ہو گئے اس کے بعد وہ دریچہ بند گیا اس کی میں نے یہ تعبیر لی کہ حضرت حظلہ شہادت پائیں گے۔

## **کرامت**

حضرت ابوسعید ساعدی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کی یہ بات سننے کے بعد میں حظلہ کے پاس گیا میں نے دیکھا کہ ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔

## **انتباہ**

اس واقعہ سے مجاہدین خصوصاً اور اہل اسلام عموماً غور فرمائیں کہ نئی شادی اور نئی دلہن ایک انسان کے لئے خواہشِ نفسانی کی انتہائی منزل ہے بالخصوص شادی کی پہلی شب تو انسانی خوشی کی معراج ہے لیکن حضرت حظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا کہ شوقِ شہادت کے مقابلے میں یہ تمام خوشیاں کچھ بھی نہیں اور اس کا جو انعام ہے اس کی تو دنیا میں کوئی مثال بھی نہیں اور ان کے انعامات کا نظارہ بصورتِ کرامات سب کے سامنے آ ہی گیا۔

## **حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ**

جب مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ میں مہاجرین کا علم تھا۔ ابنِ قمریہ معلون ان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے تلوار کے وار سے ان کا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالا اور انہوں نے علم کو بائیں ہاتھ میں لے لیا اور فرمانے لگے

**وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (پارہ ۴، سورۃ آل عمران، آیت ۱۴۴)**

## ترجمہ: اور محمد تو ایک رسول ہیں ان سے پہلے اور رسول ہو چکے۔

تو اس ملعون نے دوسرا وار کر کے بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا۔ حضرت مصعب نے دوبارہ پھر یہی کلمہ پڑھا اور دونوں بازوؤں سے علم کو پکڑ کے اپنے سینے سے ملا لیا۔ اس کے بعد اس ملعون نے ایک تیران پر مارا وہ زمین پر آ رہے۔

### فائدہ

علماء کہتے ہیں کہ یہ کلمہ جس آیت کریمہ کا جز ہے وہ آیت اُس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی مگر حق تعالیٰ نے ان پر جاری کرادی جب علم زمین پر آ رہا تو حضرت مصعب کے بھائی ابوالروم نے اس علم کو اٹھا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصعب کی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا تا کہ وہ مسلمانوں کے علم کو اٹھائے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے مصعب آگے آؤ اس فرشتہ نے کہا میں مصعب نہیں ہوں تب حضور اکرم ﷺ نے سمجھا کہ وہ فرشتہ تھا جسے حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لئے بھیجا۔ اس کے بعد ابوالروم نے اس علم کو لے لیا اور مدینہ طیبہ تک حضور اکرم ﷺ کے آگے چلتے رہے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

### فائدہ

ایسی جاں نثاری کی مثال پیش کرنے سے تاریخ عاجز ہے اور انعام بھی وہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل میں مدد کے لئے فرشتہ بھیج دیا اور ان کے منہ سے نکلے ہوئے کلمہ کو قرآن مجید کا جز بنا دیا۔

## حضرت عمرو بن الجموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ ایک پاؤں سے لنگ تھے۔ غزوہ اُحد میں جب وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ جہاد کے لئے آئے تو حضور اکرم ﷺ نے انہیں میدان جنگ سے روک دیا۔ گڑگڑا کر حضور ﷺ سے عرض کی کہ مجھے جنگ کی اجازت مرحمت فرمائیں میری تمنا ہے کہ میں لنگڑاتے ہوئے جنت میں چلا جاؤں۔ اُن کی بے قراری اور گریہ وزاری دیکھ کر حضور ﷺ نے انہیں میدان میں اُترنے کی اجازت دے دی۔ اجازت پاتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑے اور کافروں کے هجوم میں گھس کر ایسی بے جگری کے ساتھ لڑے کہ صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ دشمن کی فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر کر ایسا زبردست حملہ کیا کہ وہ گھائل ہو کر زمین پر گر پڑے یہاں تک کہ شہادت کی موت سے وہ سرفراز ہوئے۔

جنگ ختم ہو جانے کے بعد جب ان کی اہلیہ حضرت ہند نے ان کا جنازہ اُونٹ پر لاد کر جنت البقیع کی طرف لے جانا چاہا تو ہزار کوشش کے باوجود اونٹ ادھر کا رخ ہی نہیں کرتا تھا۔ بار بار میدان جنگ ہی کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتا تھا۔ جب حضور ﷺ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو حضرت ابن جموع کی اہلیہ کو بلوایا اور ان سے دریافت کیا گھر سے نکلتے وقت کیا کیا ابن جموع نے کچھ کہا تھا انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی تھی

اللهم لا تعدنی الی اہلی

یا اللہ! مجھے میدان جہاد سے اپنے اہل و عیال کی طرف واپس نہ کرنا

ارشاد فرمایا کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے اب یہ اونٹ مدینے کی طرف نہیں جائے گا ان کا جنازہ اسی میدان میں

دفن کر دو۔

## بچوں کا شوق

(۱) غزوہ بدر کے متعلق حضور ﷺ کو جب کفار کی صورتِ حال کی اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلا کر مشاورت کی۔ تمام نے جانثاری کا وعدہ کیا مسلمان اس قدر ذوق و شوق سے اس جنگ میں شریک ہوئے کہ ہر پیر و جوان کا جذبہ شجاعت قابل دیدنی تھا۔ عمر بن ابی وقاص ایک کم سن صحابی تھے عمر کوئی سولہ سال تھی۔ لشکر میں آپ ﷺ کی نظروں سے چھپ رہے تھے۔ جب آپ ﷺ نے ساتھ جانے سے روکا تو اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ آپ نے انہیں اجازت دے ہی دی۔

(۲) بموقعہ غزوہ احد حضور اکرم ﷺ نے ایک جگہ لشکر اسلام کی گنتی کی اور صحابہ کے بچوں کی ایک ٹولی کو ملاحظہ فرمایا ان کو ان کی صغر سنی کی بنا پر مثلاً عبداللہ بن عمر بن خطاب، زید بن ثابت، اسامہ بن زید، زید بن ارقم، براء بن عازب، ابوسعید خدری، سمرہ بن جندب اور رافع بن خدیج وغیرہ کو فرمایا کہ یہ سب مدینہ منورہ واپس چلے جائیں۔ یہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ﷺ! رافع تیرا انداز ہے حضور ﷺ نے ان کو شامل لشکر رہنے کی اجازت دے دی پھر سمرہ بن جندب نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! رافع کو شمولیت کی اجازت مل گئی حالانکہ میں ان کو کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں فرمایا اچھا تم دونوں کشتی کر کے دکھاؤ جب کشتی ہوئی تو سمرہ نے رافع کو پچھاڑ لیا اس پر سمرہ کو بھی شمولیت کی اجازت مل گئی۔

## ابوجہل کے قاتل بچے

معوذ و معاذ دو بھائی تھے جو عفراء کے بیٹے تھے یہ دونوں بھائی ابوجہل کو تلاش کرتے پھر رہے تھے جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے چرخ کی مانند اپنی جگہ سے زقند لگا کر تلوار کی ضرب لگائی یہاں تک کہ اسے گرا لیا۔ حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوجہل کو زخمی کر کے اس کی پنڈلی جدا کر دی اور ابوجہل کے بیٹے عکرمہ نے مجھے زخمی کر دیا جس سے میرا ہاتھ میرے کندھے سے کٹ گیا۔ چنانچہ وہ ہاتھ ایک جانب لٹک گیا اور میں اس کے باوجود جنگ کرتا رہا۔ یہاں تک میں اس ہاتھ سے تنگ آ گیا اور اس ہاتھ کو دونوں پاؤں سے دبا کر اپنے پہلو سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کی ضرب ابوجہل کے لگائی اور اسے زمین پر گرا لیا۔

لیکن ابھی اس میں جان کی کچھ رمت باقی تھی۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور ابوجہل کے مار ڈالنے کی خبر پہنچائی حضور ﷺ نے فرمایا تم دونوں میں سے کس نے مارا ہے۔ ہرا ایک بھائی مدعی تھا کہ میں نے اسے مارا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں! آپ نے فرمایا اپنی تلواریں دکھاؤ تو حضور ﷺ نے تلوار کو ملاحظہ کر کے فرمایا تم دونوں نے اسے مارا ہے اور فرمایا ابوجہل کا سامان معاذ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دیا جائے۔

مروی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کے باوجود حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ابن وہب سے روایت کرتے ہیں کہ معاذ حضور ﷺ کے پاس اس حال میں آئے کہ ان کا ہاتھ ان کی کھال سے لٹکا ہوا تھا پھر حضور ﷺ نے اپنا لعاب دہن اس پر لگا کر اس کی جگہ چسپاں کر دیا اور وہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد وہ حضرت عثمان ذوالنورین کے زمانہ تک زندہ رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کے بھائی معوذ اسی روز بدر کے معرکہ میں شہید ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کا ابو جہل کے سامان کو معاذ کے لئے حکم فرمانا اسی سبب سے تھا کہ سب سے پہلے ابو جہل انہی کے زخمی کرنے سے گر پڑا تھا اگر زخمی ﷺ کرنے میں دونوں شریک تھے اور حضور ﷺ کا یہ فرمانا کہ

### کلا کما قتله

### تم دونوں نے ہی اسے قتل کیا ہے

تو یہ دونوں کے دل خوش کے لئے فرمایا تھا اس حیثیت سے کہ یہ دونوں اس کے قتل کرنے میں شریک تھے ورنہ قتل شرعی اس کے ساتھ متعلق ہے جسے سامان کا مستحق بنایا گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو اس حال میں دیکھا کہ اس میں جان کی کچھ رمت موجود تھی انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا۔ جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا مزید تفصیل کتب سیر میں پڑھیے۔

### خواتین کا شوق جہاد

عموماً خواتین کے بارے میں تصور ہے کہ یہ صرف زینت اندرون خانہ ہیں اور بس۔ حالانکہ اسلام نے انہیں چار دیواری کی زینت کے علاوہ بہت سے رموز میں مردوں کے ساتھ دوش بدوش ہو کر بہت بڑے کارنامے سرانجام دینے کی ذمہ داریاں سپرد فرمائی ہیں لیکن ان پابندیوں کے ساتھ جو ان کے ذمہ ہیں اور بہت سی اللہ تعالیٰ کی پیاری بندیوں نے ایسے کارنامے سرانجام دیئے ہیں جو بعض مردوں کو نصیب نہ ہوئے بالخصوص صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ ان کے بعض کارنامے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں مثلاً

غزوة اُحد میں خواتین کے کارنامے لائق تحسین ہیں۔ غزوة اُحد میں بعض مسلمان عورتیں بھی ایسی ہمراہ تھیں جنہوں نے اس غزوة میں خدمت گزاری کی اور پانی وغیرہ پہنچایا اور جہاد و قتال کیا جیسے نسیم بنت کعب جو معرکوں اور محفلوں کی شیردل، بہادر اور شجاع عورت تھیں۔ جنہوں نے اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور اپنے دونوں لڑکوں حضرت عمارہ اور عبداللہ کے ساتھ مل کر کارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔ نسیم فرماتی ہیں کہ میں روز اُحد مشکیزہ اٹھا کر مسلمانوں کو پانی فراہم کرتی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ دشمنان اسلام کی چہرہ دستیاں بڑھ گئی ہیں اور انہوں نے مسلمانوں پر دراز دستی شروع کر دی ہے تو میں پانی دینے سے رک گئی اور کافروں کے ساتھ قتال میں مشغول ہو گئی۔ چنانچہ مجھے تیرہ زخم پہنچے ان میں سے ایک زخم تو سال بھر تک رستار ہا اور اُس کا علاج کیا جاتا رہا۔

لوگوں نے ان سے پوچھا یہ زخم کس نے لگائے تھے؟ انہوں نے کہا ابن قمریہ ملعون نے میں نے بھی اس پر متعدد وار کئے تھے لیکن وہ زہر پہنے ہوئے تھا جس پر میری ضرب کارگر نہ ہوتی تھی۔ جس وقت مجھے زخم پہنچا تو رسول اللہ ﷺ نے میرے فرزند عمارہ کو آواز دی کہ جلدی اپنی ماں کے پاس پہنچو اور ان کے زخموں کی مرہم پٹی کرو۔ نسیم فرماتی ہیں کہ میں اور میرے بچے حضور اکرم ﷺ کے آگے مقابلہ کر رہے تھے اور صحابہ ہزیمت کھا کر آپ کے آگے سے بھاگے جا رہے تھے۔ میرے پاس ڈھال نہ تھی اُس وقت حضور ﷺ کی نظر مبارک ایک شخص پر پڑی جس کے پاس ڈھال تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے ڈھال والے اپنی ڈھال کسی ایسے شخص کو دے دے جو مشغول قتال ہے تو اس نے اپنی ڈھال

ہاتھ سے پھینک دی۔ میں نے اس ڈھال کو اٹھا لیا اور حضور ﷺ کے گرد مشرکوں کے حملوں کو روکتی رہی۔ یہاں تک کہ ایک کافر سوار نے مجھ پر تلوار کا وار کیا لیکن وہ کارگر نہ ہوا میں نے اپنی تلوار کا وار اس کے گھوڑے پر کیا اس کا گھوڑا گر پڑا اور سوار گھوڑے سے جدا ہو گیا۔ حضور ﷺ پچشم خود حال ملاحظہ فرما رہے تھے آپ نے میرے لڑکے کو آواز دی کہ اے عمارہ جلدی اپنی ماں کے پاس آ۔ اس کے بعد میں نے اور میرے لڑکے نے حضور ﷺ کے ارشاد پر عمل کیا اور دونوں نے عمل کر اس مشرک کو قتل کر دیا۔

عبداللہ بن نسیہ کہتے ہیں کہ اس دن مشرکوں نے ایک زخم مجھے ایسا لگایا تھا جس سے خون نہ رکتا تھا۔ میری ماں نے میرے زخموں کو باندھا اور کہا اٹھ اور قتال میں مشغول ہو اُس وقت حضور ﷺ نے فرمایا اے عمارہ کی ماں! جو طاقت و ہمت تم رکھتی ہو کس میں ہے؟ اسی اثناء میں وہ شخص جس نے مجھے زخمی کیا تھا ہمارے آگے سے گزرا حضور ﷺ نے میری ماں سے فرمایا اے اُم عمارہ! یہی وہ شخص ہے جس نے تمہارے بیٹے کو زخمی کیا تھا؟ نسیہ نے اس کافر کی پنڈلی پر تلوار ماری اور وہ زمین پر حضور ﷺ کے قدم اقدس کے نزدیک گر پڑا۔ اس پر حضور اکرم ﷺ نے اتنا تبسم فرمایا کہ آپ کے نواجذ شریف نمودار ہو گئے اور فرمایا اے عمارہ! تم نے اپنے بیٹے کا قصاص اور بدلہ خوب لیا۔

خدا کا شکر ہے جس نے تم کو اپنے دشمن پر ظفر مند کیا اور تمہاری آنکھوں کو تمہارے سامنے اس کو ہلاک کر کے روشن کیا۔ نسیہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ ﷺ دعا فرمائیے کہ میں جنت میں آپ کے رفیقوں میں سے اہل بیت کے ساتھ ہوں“ حضور ﷺ نے ان کے حق میں اور ان کے فرزندوں اور شوہر کے حق میں دعا فرمائی کہ

**اللهم اجعلهم رفقانی فی الجنۃ**

**اے خدا ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا**

اُم عمارہ کی والدہ نے کہا ہر وہ مصیبت جو اس دعا کے بعد مجھے پہنچے مضا لفقہ نہیں۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں نسیہ معرکہ مسیلمہ کذاب میں بھی موجود تھیں۔ نسیہ بیان کرتی ہیں کہ روز یمامہ میں مسیلمہ کذاب کو تلاش کر رہی تھی اچانک ایک شقی نے اپنی تلوار کا وار مجھ پر کیا میرا ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ خدا کی قسم اس کے باوجود میں قتال سے باز نہ آئی ایک لمحہ کے بعد میں نے اس ملعون کو قتل کیا ہوا پایا۔ میں نے اپنے لڑکے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ اس کے سر پر کھڑا ہے اور اپنی تلوار کو اس کے خون ناپاک سے پاک کر رہا ہے۔ اس وقت میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے زخم کی مرہم پٹی میں مشغول ہوئی۔ (مدارج النبوة)

## **دورِ حاضرہ کی خاتون**

دورِ حاضرہ کی اکثر تعلیم یافتہ خواتین عملی طور اسلام سے نہ صرف بیگانگی کا شکار ہیں بہت سے بد قسمتی سے نظریہ اسلام کی باغی ہیں اور اسلامی دعویٰ کے باوجود اسلام کے اکثر مسائل کو ملازم کا نام دے کر اسلام سے برسرِ پیکار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کے صدقے بعض ایسی خواتین بھی پیدا کی ہیں جو ماحول میں رہ کر بھی اسلام کی ایسی خدمات سرانجام دے رہی ہیں جن سے بہت سے مردان کی گردنوں نہیں پہنچ سکتے بالخصوص جہاد کے معاملہ میں بھی ایسی مجاہدات خواتین کی کمی نہیں۔ مثال کے طور پر فقیر ایک خاتون کا انٹرویو پیش کرتا ہے جو سنی جریدہ جہانِ رضالا ہور ستمبر

۲۰۰۰ میں شائع ہوا جس کا عنوان ہے۔

## جہادِ کشمیر کی ایک مجاہدہ..... آسیہ اندرابی

پچھلے دنوں نیویارک میں ایک نامہ نگار بیزی بیرک امریکہ سے چل کر سری نگر مقبوضہ کشمیر پہنچے انہوں نے ایک برقعہ پوش مسلمان خاتون آسیہ اندرابی سے ایک انٹرویو لیا اور اسے اپنے اخبار ”نیویارک ٹائمز“ میں شائع کیا۔ ہم اپنے قارئین کی خدمت میں اس لئے پیش کر رہے ہیں کہ انہیں معلوم ہو کہ ایسی چنگاری بھی اپنے دامن میں ہے۔ جو جہادِ کشمیر سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آزادی کشمیر کے لئے جہاد میں عملی طور پر شریک ہیں وہ اس انٹرویو کو ضرور پڑھیں گے۔

آسیہ اندرابی ایک پختہ ایمان اور مجاہدہ خاتون ہیں جو کشمیر کو بزورِ شمشیر آزاد کرانے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مجاہدہ عورتیں بے شک نظر نہ آئیں ان کی آواز سنی جائے۔ وہ اپنے حقوق اور آزادی کشمیر کے مطالبہ پر ہمیشہ زور دیتی آئی ہیں۔ وہ سیاہ پردے کے پیچھے برقعہ کی اوٹ میں عوام تک اپنی آواز پہنچانے میں پیش پیش ہیں وہ جہادِ کشمیر میں مسلمان مردوں اور عورتوں کو یکساں شرکت کی دعوت دیتی ہیں اور اس سلسلہ میں وہ اسلام کی ابتدائی جنگوں میں مسلمان خواتین کی شرکت کو دلیل کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ وہ برملا کہتی ہیں کہ عورت کا پردہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی لئے پردہ میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ وہ پردے کے معاملے میں اتنی سخت ہیں کہ برقع پہن کر دیکھنے کے لئے بھی عینک اور پانی پینے کے لئے پائپ استعمال کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اگر سونے کا ایک ٹکڑا باہر سڑک پر پھینک دیا جائے تو ہر راہ گیر اسے قیمتی چیز سمجھ کر اٹھانے کو ہاتھ بڑھائے گا۔ اسی طرح اگر عورت کو بے پردہ باہر لاکھڑا کیا جائے تو ہر شخص اپنی ناپاک نظروں سے اسے گھور گھور کر دیکھے گا۔

آسیہ اندرابی کے ساتھ سو سے زیادہ ایسی نوجوان خواتین ہیں جو سخت پردہ کرتی ہیں اور آزادی کشمیر کی آزادی کے لئے ان مجاہدین سے رابطہ رکھتی ہیں جو کشمیر کی آزادی کے لئے مسلح جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ ہندوستانی فوجوں اور ہندوستانی اسمبلی کے پاس کردہ قوانین کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں اور مزاحمت کرتی ہیں۔

آسیہ اندرابی نے سابقہ پندرہ سالوں میں اپنی زندگی کا ایک حصہ جیلوں میں گزارا یا نظر بندیوں میں۔ وہ عورتوں کے حقوق کے لئے آواز اٹھاتی ہیں اور جہادِ کشمیر کو حق بجانب سمجھتی ہیں۔ ہندوستان کی انٹیلی جنس آسیہ اندرابی کو مجاہدین میں روپیہ تقسیم کرنے کی ذمہ داری کا الزام لگاتی ہیں جو اسے کشمیر، ہندوستان یا بیرونی اسلامی ممالک کے لوگ مہیا کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی اپنی ذاتی اور گھریلو زندگی دنیا کے مال و منال سے بے نیاز دکھائی دیتی ہے۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں ”دخترانِ ملت“ کی صدر ہے۔ وہ کشمیر کی ایک مجاہدہ بیٹی ہے جو ضرورت پڑنے پر اپنی موٹر آواز سے ہزاروں کشمیری خواتین کو سڑکوں اور گلیوں میں لا کر حکومت کے خلاف مظاہرے کرواتی ہے۔

یہ عورتیں جب جلوس نکالتی ہیں تو برقعوں کے اندر چھپائے ہوئے بینرز لے آتی ہیں اور ضرورت کے وقت انہیں سامنے لاتی ہیں ان میں اکثر ایسی عورتیں بھی آتی ہیں جو برش اور پینٹ کے ساتھ لے کر آتی ہیں اور مظاہروں کے دوران بینرز لکھ کر اپنے مطالبات پیش کرتی ہیں۔ آسیہ اندرابی ایسی خواتین کو جو پردہ نہیں کرتیں مظاہروں سے پہلے کلر ڈائی مہیا کرتی ہیں۔ عورتیں اپنے چہرے کی رنگت اور آنکھوں کی چمک کو چھپا کر مظاہرہ کرتی ہیں اگرچہ سری نگر اور جموں

کے علاوہ وادی کشمیر کے بڑے بڑے شہروں کی امیر خواتین ہندوستانی ساڑھیوں اور بعض مغربی لباس کو پسند کرتی ہیں مگر مظاہروں کے وقت ان چیزوں سے بے نیاز دکھائی دیتی ہیں۔

آسیہ اندرابی اپنی شہرت اور اسلامی پردہ میں پابندی کی وجہ سے ساری وادی کشمیر میں احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ اس کی عمر اس وقت ۳۷ سال ہے مگر وہ عزم و ہمت کا پہاڑ بن کر دختران کشمیر کی قیادت کرتی ہیں۔ وہ نہ تو شرماتی ہیں نہ کسی معرکے میں آنے سے جھجکتی ہے۔ وہ پریس کانفرنسوں میں پوری تیاری سے آتی ہے پریس رپورٹروں کے سوالات کے جوابات سیاہ برقعہ اور سنہری فریم کی عینک پہن کر بلا جھجک دیتی ہے۔ وہ ذاتی انٹرویو دینے کی عادی نہیں وہ ایسے انٹرویو لینے والوں کو فون پر کھل کر اپنا نکتہ پیش کرتی ہے اور امریکہ، برطانیہ، ممبئی اور ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بیٹھے ہوئے کئی رپورٹرز اس سے کشمیری جدوجہد آزادی پر انٹرویو لے سکتے ہیں۔ اگر اسے کسی اہم کانفرنس میں آنا پڑے تو اپنے آٹھ ماہ کے بچے کو گود میں لے کر پورے اعتماد سے پریس کو فیس کرتی ہے۔ مغربی ممالک کے اخباری نمائندوں سے نہایت شستہ انگریزی میں گفتگو کرتی ہے اور ان کے سوالات کا جواب دیتی ہے۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور انگریزی طرز کے اسکولوں کی تعلیم یافتہ ہے۔ اس کا انگریزی لہجہ نہایت ہی صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ وہ برملا کہتی ہے کہ آزادی کشمیر کی جدوجہد میں میرا پردہ، میرا برقعہ کبھی آڑے نہیں آیا اور میں جہاد کشمیر کے لئے برملا اپنا نکتہ پیش کرتی ہوں۔

پچھلے دنوں اپنی مجاہدانہ مصروفیتوں کے پیش نظر اس نے اپنے خاوند کو نہایت خوشی سے اجازت دے دی تھی کہ وہ میرے علاوہ ایک، دو یا تین شادیاں کر سکتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر ایمان رکھتی ہے کہ مرد و عورت تین یا چار عورتوں سے شادی کر سکتا ہے مگر اسے عدل و انصاف برقرار رکھنا ہوگا۔ وہ کہتی ہے کہ ہندوستانی فوجوں سے لگا تار جہاد کی وجہ سے ہزاروں کشمیری نوجوان مارے گئے ہیں، جواں سال عورتیں بیوہ ہو گئیں ہیں، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ اگر ان بیوہ عورتوں پر یتیم بچوں کا ایک مرد کفیل بن سکتا ہے تو انہیں آگے بڑھ کر ان کا سہارا بننا چاہیے۔ بجائے اس کے کہ جواں عورتیں اور یتیم بچے بے سرو سامانی کے عالم میں یو این او کے کیمپوں میں دھکے کھاتے پھریں۔

آسیہ اندرابی نے اپنی ذاتی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا اس کے والد ایک ڈاکٹر تھے ایک دین دار اور صالح مسلمان تھے۔ مگر جب میرے والد نے مجھے سیکولر (بے دین کالج یونیورسٹی) میں داخلہ لینے کے لئے کہا تو میں نے انکار کر دیا میرے سارے بہن بھائی سیکولر کالجوں سے ہٹ کر قرآن اور حدیث کی تعلیم میں مصروف تھے۔

آسیہ اندرابی نے سری نگر کالج میں عام تعلیم کے بجائے بائیو کیمسٹری کی تعلیم حاصل کی مگر جب اس فنی تعلیم میں مزید مہارت حاصل کرنے کے لئے دہلی جانا پڑا تو اس کے والدین نے وہاں جانے کی اجازت نہ دی۔ آسیہ اندرابی نے ایسی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا جو اسلام کے بنیادی اصولوں پر مشتمل تھیں یا انگریزی کتابوں کا مطالعہ کیا جن میں غیر مسلم عورتوں نے اسلام کے دامن میں آنے کے تجربات لکھے تھے۔ آسیہ اندرابی نے بتایا ان کتابوں کے مطالعہ کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی مجھے مزید مطالعہ کرنا چاہیے۔ مجھے

افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مرد تو مساجد جاتے ہیں، وہاں علماء کرام کے وعظ سنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور عملی تربیت ہوتی ہے مگر عورتوں کو یہ مواقع نہیں دیئے جاتے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ تم گھر بچوں کی پرورش کرو حالانکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں کو ان کے ایمان، اعتقاد اور اعمال کے متعلق ایک جیسے سوال کرے گا۔

آسیہ اندرابی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتی، تفسیر کا مطالعہ کرتی اور دوسرے خواتین کو قرآن پڑھاتی ہیں۔ وہ ان لوگوں سے نالاں ہیں جو عورتوں کو قرآن پاک اور احادیث کے مطالعہ یا تشریح کے مواقع دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے خیالات میں آج زمانہ بڑی تبدیلیوں سے دوچار ہے۔ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی مختلف علوم پر عبور حاصل کرنا چاہیے۔ آج کی جاہل عورت اسکول سے آنے والے اپنے بیٹے کے سوالات کے جوابات دینے سے بھی معذور ہے اس کے بچے اللہ اور رسول کے متعلق سوالات کرتے ہیں تو خاموش رہتی ہے اسلام کی بات پوچھتے ہیں تو چپ رہتی ہے۔

۱۹۸۹ء میں مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی کی تحریک کا آغاز ہوا۔ وادی کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اس وادی پر کئی سو سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ آسیہ اندرابی کو یقین ہے کہ ہندوستان کو ایک نہ ایک دن کشمیر کو چھوڑنا ہوگا اور وادی کشمیر کے مسلمانوں کو پاکستان کے ساتھ مل جل کر نظامِ مصطفیٰ ﷺ کے نفاذ کی جدوجہد میں شریک ہونا ہوگا۔ ایسا ماحول عورتوں کو زیادہ امن و سکون مہیا کرے گا۔ آسیہ اندرابی نے زور دے کر کہا آج ساری دنیا بے دینی اور اللہ سے سرکشی کی وادی بن گئی ہے۔ انہیں اسلام کے دامن میں آ کر امن نصیب ہوگا ایک دن دنیا بھر کے مسلمانوں کو یکجان اور متحد ہونا ہوگا۔

آسیہ اندرابی نے کہا آج کشمیر کی وادی مختلف قوتوں کی زور آزمائی کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ یہاں درجنوں سیاسی گروپ کام کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طور پر وادی کشمیر میں زور آزمائی کر رہی ہیں۔ ہندوستان کی فوجیں، اس کی ایجنسیاں، اس کے مذہبی گروپ اور بیرونی عناصر، اسلامی اور غیر اسلامی طبقے وادی کشمیر میں اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ان حالات پر عورتوں کا کردار نہایت ہی تھوڑا ہے۔ یہ مردوں کا میدان جنگ ہے، یہ مجاہدین کا میدان جنگ ہے، یہ ہندوؤں کی شیوسینا کا میدان ہے۔ یہاں عورت کا کوئی مقام نہیں، وہ جنگلوں میں نہیں جاسکتی، وہ بندوق نہیں اٹھا سکتی، وہ مر سکتی ہے مگر مار نہیں سکتی۔

آسیہ اندرابی نے بتایا کہ اس کا خاوند محمد قاسم ایک جہادی گروپ جمعیت المجاہدین سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اس کا شریک زندگی بھی ہے اور ۱۹۹۰ء سے شریک جہاد بھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے والد کو کہا کہ میں جہاد میں شریک ہوں اگر آپ اپنی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کر دیں تو میں اسے زندگی بھر احترام اور عزت سے رکھوں گا۔ میرے والد مان گئے اور میری ۲۷ سال کی عمر میں اس مجاہد سے شادی ہو گئی ہم کئی بار گرفتار ہوئے۔ ہندوستانی جیل عقوبت خانے میں نہایت ہی پر عذاب ہیں۔ ۱۹۹۳ء میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا دیا۔ مجھے تیرہ ماہ کے لئے جیل میں بند کر دیا گیا بیٹا میرے ساتھ جیل میں رہا۔ اس کی میں نے صرف اپنے دودھ سے پرورش کی۔ حکومت کی طرف سے اس بچے کے لئے کچھ نہیں تھا کیونکہ کاغذوں میں وہ قیدی نہیں تھا۔

آج میں گھر آگئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بندوق کا سہارا لے کر بڑا ہو، ہاتھ میں بندوق لے کر جوان ہو، میں اسے مجاہد دیکھنا چاہتی ہوں، میں اسے ڈاکٹر یا انجینئر بنانا نہیں چاہتی، میں اسے سی ایس ایس کا امتحان دلوا کر ڈی سی نہیں بنانا چاہتی۔

میں اسے صرف مجاہد دیکھنا چاہتی ہوں جس کے سینے میں قرآن ہو جس کے ہاتھ میں بندوق ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے جنگوں اور پہاڑوں میں لڑتا رہے اور اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان غازیوں کے صف میں کھڑا نظر آئے۔

دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا

سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی

ہمارے دور میں جہاد کے نام پر درجنوں تنظیمیں کام کر رہی ہیں لیکن ان تنظیموں کے مجاہدین اور ان کے سربراہوں روزنامہ قومی اخبار کراچی (باب المدینہ) نے دہشت گرد قرار دے کر ان کے جہاد کو مخدوش کر دیا ہے۔ سوائے ان چند تنظیموں کے جو روزنامہ ”قومی اخبار“ کے اشاروں کی زد میں نہیں ہیں اور وہی ہو سکتی ہیں جنہیں سعودی دہشت گردی کی نگرانی میں نہیں اور وہ واقعی کفار و مشرکین لشکر اسلام، لشکر ابابیل، انصار الاسلام آل جموں و کشمیر، سنی جہاد کونسل ان تنظیموں کو سعودی دہشت گرد سے کوئی تعلق نہیں اس لئے کہ یہ سعودی کے عقائد کی اس طرح دشمن ہیں جیسے یہود و نصاریٰ اور ہندوؤں کے مذہب کے ان کے سوابقی تنظیمیں بالخصوص پاکستان کی جہادی تنظیمیں جیسے لشکر طیبہ، انجمن سپاہ صحابہ، جیش محمد اور یہی حال شیعہ تنظیموں کا ہے کہ ان کا تعلق ایران سے ہے۔

## دہشت گردوں کا سرپرست کون؟

بلا تبصرہ حامد میر (کراچی)

امریکی دفتر خارجہ نے حرکت المجاہدین، القاعدہ اور حماس سمیت دنیا بھر میں ۲۸ تنظیموں کو دہشت گردی کی حالیہ لہر اور وزیراعظم و وزیر اعلیٰ پنجاب کے طالبان مختلف بیانات کے فوراً بعد سامنے آیا ہے۔ اب اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دہشت گردی کی حالیہ لہر کا اصل نشانہ طالبان اور حرکت المجاہدین تھے دہشت گرد قرار دی گئی۔ اکثر تنظیمیں مسلمانوں پر مشتمل ہیں ان میں حماس سمیت پانچ تنظیمیں فلسطین کی آزادی کے لئے لڑ رہی ہیں پی ایل او اس فہرست میں شامل نہیں کیونکہ وہ ہتھیار پھینک کر مذاکرات میں مصروف ہیں۔ لبنان کی حزب اللہ اور الجیریا کے آرٹ اسلامک گروپ کو امریکہ نے پہلے بھی دہشت گردی قرار دیا تھا اور حالیہ فہرست میں بھی انہیں شامل کیا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے بعض مغرب نواز دانشور کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں کی رواداری کے قصے سناتے نہیں تھکتے لیکن امریکہ سمیت اکثر مغربی ممالک اسلام کے خلاف تعصب اور نفرت انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ امریکہ جس حرکت المجاہدین کو دہشت گرد قرار دیتا ہے اس نے ہتھیار کیوں اٹھائے؟ اس لئے کہ بھارت اور اس کا سرپرست امریکہ کشمیریوں کو وہ حق خود ارادیت دینے سے انکاری ہے جس کا وعدہ ۱۹۴۸ء میں اقوام متحدہ نے کیا تھا۔

حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے بھی ہتھیار اس لئے اٹھائے کہ امریکہ اور برطانیہ نے باہمی سازش سے فلسطین

اور یہودیوں کو مسلط کر دیا الجیریا میں اسلام پسندوں نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی لیکن امریکہ نے فوج کے ذریعہ اسلام پسندوں کو حکومت میں آنے سے روک دیا جس کے بعد وہاں آرٹڈ اسلامک گروپ وجود میں آیا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ مسلمان ظلم و زیادتی پر خاموش رہیں لیکن وہ خاموش نہیں رہتے تو امریکہ انہیں دہشت گرد کہنے لگتا ہے۔ مشرقی تیمور کی عیسائی اکثریت کو حق خود ارادیت دلوا کر اور کشمیریوں کو حق خود ارادیات سے محروم رکھ کر امریکہ اور مغربی ممالک اپنی انتہاء پسندانہ مذہبی منافرت کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ یہ مغربی انتہا پسند مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کے لئے انہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں لہذا مسلمانوں کو اپنی آنکھیں کھولنا ہوگی اور ان عناصر کو پہنچانا ہوگا جو ہمیں فرقہ وارانہ بنیادوں پر آپس میں لڑانا چاہتے ہیں ہمارے اختیار طالبان پر انگلی اٹھانے کی جرأت تو رکھتے ہیں لیکن سعودی عرب کے بارے میں خاموش ہیں جو ایک فرقہ وارانہ گروپ کا سرپرست ہے۔ آج نہیں تو کل یہ حقیقت ضرور کھل کر سامنے آئے گی کہ پاکستان میں دہشت گردی کی حالیہ وارداتیں ایک ایسے گروپ نے کیں جس کا سعودی سفارتکاروں سے گہرا رابطہ رہتا ہے۔ اب یہ حقیقت ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ سعودی عرب کا شاہی خاندان دہشت گردی کے زور پر حکومت قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس دہشت گرد خاندان نے قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حرین شریفین کے ارد گرد یہود و نصاریٰ کی فوجوں کو تعینات کر رکھا ہے اور اگر کوئی اسامہ بن لادن کو احتجاج کرے تو اسے ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔

سعودی حکومت اپنے عوام کے ساتھ نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے ساتھ دہشت گردی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اس شاہی حکومت نے کچھ عرصہ قبل نبی کریم ﷺ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک کو بلڈوز کر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جب دنیا بھر میں احتجاج ہوا تو اس واقعے کی تردید کر دی گئی۔ حال ہی میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی نے اپنی آنکھوں سے وہ مقام دیکھا جہاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کو شہید کر دیا گیا آج دنیا بھر میں تاریخ کو محفوظ کیا جا رہا ہے لیکن سعودی عرب کا شاہی خاندان تاریخ کو مٹانے کے درپے ہیں کیونکہ اسلام سے وابستہ اس تاریخ کا مطالعہ بادشاہوں کے خلاف جاتا ہے۔ اسلام میں بادشاہت کی کوئی گنجائش نہیں لہذا یہ شاہی خاندان آہستہ آہستہ اسلام کو مٹانے کے درپے نظر آتا ہے۔ حال ہی میں کویت کے ایک عالم دین سید یوسف ہاشمی رفاعی نے سعودی کے نام ایک طویل خط لکھا ہے جس میں بتایا اس بد بخت شاہی خاندان نے جماعہ میں ناصر البانی کو نوکری دے رکھی ہے جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے مزار اقدس کو مسجد نبوی سے نکالا جائے۔ ناصر البانی کو شاہ فیصل نے جامعہ اسلامیہ سے نکال دیا تھا لیکن شاہ فہد اسے واپس لایا اسی جامعہ اسلامیہ میں مقبل بن ہادی الوداعی نامی شخص نے پی ایچ ڈی کے مقابلے میں لکھا کہ نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک کو مسجد نبوی سے خارج کیا جائے کیونکہ یہ قبر اور مزار رسول ﷺ کا گنبد بدعت ہے۔ اس شاہی خاندان نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ مکان بھی گرا دیا جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا اولین مرکز تھا۔ یاد رہے کہ نبی کریم ﷺ کی ذات اور تاریخ اسلام سے وابستہ تاریخی مقامات کو خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکوں نے محفوظ کیا تھا لیکن آج سعودی عرب کا شاہی خاندان ان تمام مقامات مقدسہ کو نقصان پہنچانے کی تیاریوں میں ہے اور اس دہشت گرد خاندان کا سب

سے بڑا سرپرست امریکہ ہے امریکہ صرف اس ایک دہشت گرد خاندان کا نہیں بلکہ بھارت اور اسرائیل سمیت مسلمانوں کے ہر دشمن کا سرپرست ہے امریکہ حرکت المجاہدین یا حماس پر پابندی لگا کر کشمیر و فلسطین میں آزادی کی تحریکوں کو نہیں دبا سکتا۔ مسلمانوں کو صرف کشمیر و فلسطین نہیں بلکہ سعودی عرب کے دہشت گرد خاندان اور اس کے سرپرست امریکہ کے قبضے سے حرمین شریفین کو بھی آزاد کروانا ہے اور آزادی کی یہ منزل صرف اتحاد و اتفاق سے ملے گی۔ (روزنامہ قومی اخبار کراچی، منگل ۱۱۲ اکتوبر ۱۹۹۹ء)

بہر حال جہاد بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے لیکن اس کے لئے جس کی نیت اعلا کلمۃ اللہ ہو اس کے علاوہ دنیوی ارادہ یا دکھاوا کے طور پر وہ جہاد جہنم میں لے جائے گا۔

### وما علینا الا البلاغ

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ و علی آلہ و اصحابہ اجمعین

هذا آخر مارقمہ قلم

الفقیر القادری ابوالصالح

محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

بہاولپور۔ پاکستان

۱۵ ذوالحجہ ۱۴۲۱ھ